

Psa

Chapter 99

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 יְהוָה יְהוּוָה מֶלֶךְ אֱלֹהֵינוּ עַמִּים יִשְׁבּוּ בְּרֹגְלֵיהֶם כְּרוּבִים תִּנּוּט הָאָרֶץ:
یہوواہ بادشاہ-بے کانپیں قومیں بیٹھا-ہوا-بے کروبیوں-پر لرزے زمین
H3068 H7264 H3427 H3742 H5120 H0776

ڈگمگائے ادنیا ہے، نشین تخت درمیان کے فرشتوں کروبی وہ اُنہیں! لرز اقوام ہے، بادشاہ رب

2 יְהוָה יְהוּוָה בְּצִיּוֹן גְּדוֹל וְרָם הוּא עַל-כָּל-הָעַמִּים:
یہوواہ صیہون میں بڑا-بے اور-بلند-بے وہ سب-سے-بڑھ-کر سب قوموں-سے
H3068 H6726 H1931 H3605

بے-سر بلند پر اقوام تمام ہے، عظیم رب پر صیون کوہ

3 יוֹדוּ וְהִשְׁתַּחֲוּוּ שְׂמֹרָה גְּדוֹל וְנֹרָא קְדוֹשׁ הוּא:
وہ-ستائیں تیرے-نام-کی بڑا اور-مہیب پاک-بے وہ
H3034 H8034 H3372 H6918 H1931

بے-قدوس وہ کیونکہ کریں، ستائش کی نام پُر جلال اور عظیم تیرے وہ

4 וְעָזָּר וְיָדָה מֶלֶךְ מִשְׁפָּט אֱלֹהִים אֲתָהּ כּוֹנֵנֶת מִיִּשְׂרָאֵל מִשְׁפָּט וְיָדָה:
اور-طاقت بادشاہ-کی عدالت-سے محبت-رکھتی-ہے تُو قائم-کیا راستی راستی عدالت اور-راستبازی
H5797 H4428 H4941 H0157 H4339 H4941 H6666

اِبْرٰیقَابِ یَعْقُوبَ-مِیْنِ تُو-نَہِ اَآءِہ عَشیءِ:
یعقوب-میں تُو-نہ کیا

بے-کی پیدا راستی اور انصاف میں یعقوب نے ہی تُو کیا، قائم عدل نے ہی تُو اللہ، اے بے-کرتا پیار سے انصاف جو کریں تمجید کی قدرت کی بادشاہ وہ

5 رֹמְמוֹ וְרֹמְמוֹ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וְהִשְׁתַּחֲוּוּ אֱלֹהֵינוּ לְהֹרֵם چوکے-پر اُس-کے-قدموں-کی رنڈیو پاک-بے وہ
سر بلند-کرو یہوواہ-کو ہمارے-خدا-کو اور-سجدہ-کرو اور-سموئیل اُس-کے-نام-پکارنے-والوں-میں اس-کے-نام-پکارنے-والوں-میں اس-کے-نام-پکارنے-والوں-میں اس-کے-نام-پکارنے-والوں-میں
H3068 H0430 H7812 H1916 H7272 H6918 H1931

بے-قدوس وہ کیونکہ کرو، سجدہ سامنے کے چوکے کی پاؤں کے اُس کرو، تعظیم کی خدا ہمارے رب

6 מִנְשֵׁה וְיָדָה מוֹסֵי אֱלֹהֵינוּ וְהִשְׁתַּחֲוּוּ אֱלֹהֵינוּ לְהֹרֵם چوکے-پر اُس-کے-قدموں-کی رنڈیو پاک-بے وہ
موسی اور-بارون اُس-کے-کابنوں-میں اور-سموئیل اُس-کے-نام-پکارنے-والوں-میں اس-کے-نام-پکارنے-والوں-میں اس-کے-نام-پکارنے-والوں-میں اس-کے-نام-پکارنے-والوں-میں
H4872 H0175 H3548 H8050 H7121 H8034 H7121

اَآءِہ یְהוָה وְהוּא יְעַנֶּם:
یہوواہ اور-وہ اُنہیں-جواب-دیتا-تھا

سنی-کی اُن نے اُس اور پکارا، کو رب نے اُنہوں تھے۔ پکارتے نام کا اُس جو تھا سے میں اُن بھی سموئیل تھے۔ سے میں اماموں کے اُس بارون اور موسیٰ

7 בְּעַמּוּד סְטוֹן-مِیْنِ بָדَل-کَے بولتا-تھا اُن-سے اُنہوں-نے-مانا اُس-کی-شہادتیں اور-فریضہ جو-دیا انہیں
H5982 H6051 H1696 H0413 H8104 H2706 H5414

تھے۔ دیئے اُنہیں نے اُس جو رہے تابع کے فرمانوں اور احکام اُن وہ اور ہوا، کلام ہم سے اُن سے میں ستون کے بادل وہ

8	יְהוָה	אֱלֹהֵינוּ	אָתָּה	עֲנִיתָם	אֵל	גִּשָׁא	הֵייתָ	לָהֶם	אֲנִיכֶם
	یہوواہ	ہمارے-خدا	تُو-نَے	اُنہیں-جواب-دیا	خدا	معاف-کرنے-والا	تُو-تھا	اُن-کے-لیے	اور-انتقام-لینے-والا
	H3068	H0430			H0410	H5375	H1961	H1992	H5358

עַל-
 עֲלֵינוּ:
 پر اُن-کے-کاموں-پر
[H5949](#)

رہا۔ دیتا بھی سزا کی حرکتوں بُری کی اُن اُنہیں البتہ رہا، کرتا معاف اُنہیں ہے اللہ جو تُو سنی۔ کی اُن نے تُو خدا، ہمارے رب اے

9	רוּמְמוֹ	יְהוָה	אֱלֹהֵינוּ	וְהִשְׁתַּחֲוִי	לְתָר	קָדְשׁוֹ	כִּי-	קָדוֹשׁ	יְהוָה
	سرہند-کرو	یہوواہ-کو	ہمارے-خدا-کو	اور-سجدہ-کرو	پہاڑ-کے-لیے	اُس-کے-مقدس	کیونکہ	پاک-ہے	یہوواہ
		H3068	H0430	H7812	H2022	H6944		H6918	H3068

אֱלֹהֵינוּ:
 ہمارا-خدا
[H0430](#)

ہے۔ قدوس خدا ہمارا رب کیونکہ کرو، سجدہ پر پہاڑ مُقدس کے اُس اور کرو تعظیم کی خدا ہمارے رب